

NRSP Microfinance Bank Limited Account Bookings		IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. اہم معلومات: اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اس دستاویز کو غور سے پڑھیں۔ آپ دوسرے بینکوں کی طرف سے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔												
NRSP Microfinance Bank Limited														
Key Fact Statement - PKR Accounts (Current / Savings)		Account Types & Salient Features : Account Types & Salient Features : This information is accurate as of the date above. Products/Services and/or its fees may change from time to time after notice by the Bank. Profit on remunerative accounts (If any) will be distributed as per the applicable Profit Sharing Ratio and weightages announced by the Bank from time to time. Current Accounts will be based on Qard. Saving Accounts and Islamic Term Deposits will be based on Mudarabah. اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات: اوپر دی گئی معلومات درست ہیں۔ پروڈکٹ /سروسز اور اس کی فیسیں وقتاً فوقتاً نوسن کے بعد تبدیل ہو سکتی ہیں۔بینک سے بینک کے منافع بخشی اکاؤنٹ پر منافع اطلاق کرکے دیے ، بینک قابل اطلاق منافع کی تقسیم وقتاً فوقتاً اطلاع کردہ تناسب کے مطابق کیا کرے گا۔ گورنٹ اکاؤنٹس قرض پر مبنی ہوں گے۔ سیونگ اکاؤنٹس اور اسلامی ادوم ڈپازٹس مضابطہ پر مبنی ہوں گے۔ Service Charges: IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find a full list at www.nrspbank.com or visit our branches. سروس چارجز: اس اکاؤنٹ کے لیے مرکزی سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل ہیں آپ ہماری ویب سائٹ () یا بینک کی برانچز پر مکمل فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔												
Branch Name:														
Date:														
Services تفصیلات		Current Deposits		Saving Deposits						Islamic certificates				
		Assan Islamic Current Account	NRSP Behtreen Current Account	Islamic Premium Account	Taqbir Bachat Account	Bawagar Bachat Account	Bawagar Bachat Account -S	Assan Bachat Account	Behtreen Amdan Certificate (15 Months)	Behtreen Amdan Certificate (6 Months)	Behtreen Amdan Certificate- 1 Year	Behtreen Amdan Certificate- 2 Years	Behtreen Amdan Certificate- 3 Years	
Currency کرنسی		PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	PKR	
Minimum Balance کم سے کم بیلنس	To open کھولنے کے لیے	100	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	100	1000	1000	1000	1000	1000	
	To keep رکھنے کے لیے	0	0	\$000	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	
Account Maintenance Fee اکاؤنٹ مینٹیننس فیس		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
Last month's declared Profit Rate. (%) گزشتہ ماہ کا ادا شدہ پرافٹ ریٹ		NIL	NIL	0.02%	10.12%	10.12%	10.12%	10.12%	12.65%	11.81%	12.65%	14.34%	14.51%	
Is Profit Paid on account (Yes/No) Subject to the applicable tax rate. - کیا منافع اکاؤنٹ پر ادا کیا جاتا ہے، قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے، مشروط		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
Profit Payment Frequency منافع کی ادائیگی کی فرائیکوانسی		NIL	NIL	Monthly	Half Yearly	Monthly/ Quarterly/Half Yearly	*As Per Balance	Half Yearly	Quarterly	Monthly/ Quarterly/ Maturity	Monthly/ Quarterly/ Half Yearly/ Maturity	Monthly/ Yearly/ Maturity	Monthly/ Quarterly/ Half Yearly/ Maturity	
Provide example (Profit is calculated on PKR 100,000) per month. فراہم کردہ مثال (میں لاکھ کے اندر دیکھیں ماہ ادا شدہ منافع		NA	NA	Rs.1.41	Rs.843.44	Rs. 843.44 Rs. 878.58 Rs. 913.73	Rs843.44 Rs.843.44 Rs.843.44 Rs.919.41	Rs.843.44	Rs. 1054.30	Rs. 984.01 Rs. 1089.44	Rs. 1054.30 Rs. 1089.44 Rs. 1152.70 Rs. 1124.59	Rs. 1194.87 Rs. 1300.30 Rs. 1335.45.01	Rs 1208.93 Rs.1279.22 Rs.1314.36 Rs.1349.50 Rs.1405.73	
Cash Transaction کیش ٹرانزیکشن	Inter-city	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
	Intra-city	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
	Own ATM withdrawal	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
	Other Bank ATM	Rs.35/-	Rs.35/-	Free	Rs.35/-	Rs.35/-	Rs.35/-	Rs.35/-	NA	NA	NA	NA	NA	
SMS Alerts (Per annum) ایس ایم ایس (آلٹرن-سالانہ)		ADC/Digital	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	Free	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	Rs.600/- + FED	NA	NA	NA	NA	NA	
Debit Cards (Per annum) ڈیبٹ کارڈ (سالانہ)	Silver Card (Issuance Fee)	Rs.800/-	Rs.800/-	Free	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Silver Card (Annual Fee)	Rs.800/-	Rs.800/-	Free	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	Rs.800/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold (Issuance Fee)	Rs.900/-	Rs.900/-	Free	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Card (Annual Fee)	Rs.900/-	Rs.900/-	Free	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	Rs.900/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Plus (Issuance Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Gold Plus (Annual Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Goldotile Card (Issuance Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	Goldotile Card (Annual Fee)	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Free	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	Rs.1000/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Cheque Book چیک بک	Issuance	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Free	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	Rs.20/- per leaf	NA	NA	NA	NA	NA	
	Stop Payment (Cheques)	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Free	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	Rs.300/- per instruction	NA	NA	NA	NA	NA	
	Lost Cheque Book Requisition	Rs.100/-	Rs.100/-	Free	Rs.100/-	Rs.100/-	Rs.100/-	Rs.100/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Clearing کھیرک	Local Clearing	NIL	NIL	Free	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
	Same Day	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Free	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
	Inter-city	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Free	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
	ORC	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Free	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	Rs. 300/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
Remittance (Local) ریمٹنس (لوکل)		* Issuance of Duplicate/Cancellation/Re-validation PO/DO/BC	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Free	Rs. 300/-	Rs. 300/-	Rs. 300/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Statement of Account گوشورہ حساب		Annual/Half Yearly/Duplicate	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
Issuance of Balance Certificate بیلنس سرٹیفکیٹ کا اجراء		Rs. 200/- Per Certificate	Rs. 200/- Per Certificate	Free	Rs. 200/- Per Certificate	Rs. 200/- Per Certificate	Rs. 200/- Per Certificate	Rs. 200/- Per Certificate	NA	NA	NA	NA	NA	
Fund Transfer رقم کی منتقلی /آنڈر ٹرانسفر		ADC/Digital	NIL	Free	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
Fund Transfer رقم کی منتقلی /آنڈر ٹرانسفر	IBFT Above PKR 25000 Per Month	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	Free	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	0.1% of Exceeding Amount	NA	NA	NA	NA	NA	
	Maximum Charges	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Free	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	Rs.200/- + FED Per Transaction	NA	NA	NA	NA	NA	
Balance Enquiry بیلنس کی معلومات	On NRSP Bank's ATM	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
	On 1-Link Member Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
	On MNET Member Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Receipt Printing Charges رسید پرنٹنگ چارجز		On NRSP Bank's ATM & Other Bank's ATM	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Free	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	Rs.4.67/-	NA	NA	NA	NA	NA	
Closure of Account اکاؤنٹ کی بندش		On customer's request	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NA	NA	NA	NA	NA	
Standing Instructions مستقل ہدایات		Rs. 200/- Per Instrument	Rs. 200/- Per Instrument	Free	Rs. 200/- Per Instrument	Rs. 200/- Per Instrument	Rs. 200/- Per Instrument	Rs. 200/- Per Instrument	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-102		9:00 AM to 4:30 PM Mon-Fri	Rs. 50/-	Rs. 50/-	Free	Rs. 50/-	Rs. 50/-	Rs. 50/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103		9:00 AM to 2:00 PM Mon-Fri	Rs.220/-	Rs.220/-	Free	Rs.220/-	Rs.220/-	Rs.220/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103		2:00 AM to 3:30 PM Mon-Fri	Rs.330/-	Rs.330/-	Free	Rs.330/-	Rs.330/-	Rs.330/-	NA	NA	NA	NA	NA	
RTGS* MT-103		3:30 AM to 4:30 PM Mon-Fri	Rs.550/-	Rs.550/-	Free	Rs.550/-	Rs.550/-	Rs.550/-	NA	NA	NA	NA	NA	

You Must Know				آپ کی لازمی معلومات کے لیے	
Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and Bank's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. Please ask us for more details from branch representative or by calling our Helpline: +92 62-111-011-011 Cheque Bounce: Dishonoring of cheques is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence. In this regard Section 489-F of Pakistan Penal Code (PPC) applies, "Dishonestly issuing a cheque": Whoever dishonestly issues a cheque towards repayment of financing or fulfilment of an obligation which is dishonored on presentation, shall be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine, or both. Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, T-Pins, Cheques, e-banking usernames, passwords; other personal information, etc. is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. The State Bank of Pakistan or your bank will never Call/ SMS/ Mail/ Email to ask for customer's confidential details and other sensitive information related to bank account. Customer must be aware of this fact that sharing such information with anyone might cause financial fraud. Similarly, customers must be cautious of phishing emails asking the customer to click on link and for instance, change the password of his/ her bank account. Record updating: Always keep profiles/records updated with the Bank to avoid missing any significant communication. You can contact/ visit your nearest branch for record updating or you may call at our 24/7 call center by dialing +92 62-111-011-011 from your number registered with your account. What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be marked as dormant. If your account becomes dormant, you will not be able to perform any debit/withdrawal transaction. To reactivate your account, you must visit your NRSBP Bank's branch with an original valid identity document. Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact your parent/concerned branch. You will have to fulfil all required regulatory requirements that the Bank might require to proceed further. Closing this account: In order to close your account, please visit your branch along with your original valid identity document for account closure. The Bank shall perform mandatory requirements for account closure. Any products, services or facilities linked with your account shall automatically be cancelled/ deactivated subsequent to the account closure. Expired Identity Document: Once your submitted ID document has reached to its expiry, you shall be requested to submit a new valid ID document immediately to avail banking service. How can you get assistance or make a complaint? You can also register your complaint at "complaints@nrspbank.com" or by calling at bank's Toll free # 08000-6777 or UAN # 062- 111-011-011 or by visiting your NRSPMFBL branch. NRSP Microfinance Bank Limited, Near Baghdad Railway Station, University Road, Bahawalpur 63100, Pakistan. +92-62-2285126 +92-62-2280051 complaints@nrspbank.com: UAN:062-111-011-011 Toll Free: 080006777 Alternate Number: 051-2650004. If you are not satisfied with our response, you may contact: The Director, Consumer Protection Department, SBP 5th Floor, SBP Main Building, I. I Chundrigar Road, Karachi. UAN Number: 021-111-727-273 Fax Number: 021-99221160 & 99221154 Email Address: cpd.helpdesk@sbp.org.pk				اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگو لیٹری ہدایات اور بینکوں کی داخلی پالیسیوں کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی معلومات کی وقتاً فوقتاً ضرورت پیش آسکتی ہے۔ برائے مہربانی آپ مزید مفصل معلومات کے لیے ہماری کسی بھی برانچ تشریف لا سکتے ہیں۔ این آر ایس پی بینک کے 24 گھنٹے فون بینکنگ +92-62-111-011-011 پر کال کر سکتے ہیں۔ چیک باؤنس : چیک کی قبولیت سے انکار 1860 کے پاکستان پیٹل کوڈ سیکشن 489-F اور فنانس انسٹیوشن (ریگولیٹری آف وڈینس 2001 کے سیکشن 20 کے تحت ایک مجرمانہ عمل ہے) اور اس پر پاکستان میں فوجداری مقدمے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک لکھنا چاہیے۔ محفوظ نگہبانی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی ، والے آلات کی محفوظ تحویل جیسے ATM کارڈز، پین، پی، پی، جیکس ، ای بینکنگ یو آر ڈی، پاسورڈ ، دیگر ذاتی معلومات (جیسے تاریخ پیدائش ، ماں کا نام وغیرہ) آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسٹمر کی جانب سے سیکوریٹی کی غلطی کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ SBP/NRSP BANK: اس اکاؤنٹ کی معلومات (پاس ورڈ ، ڈیٹ کارڈ #، پین ، سی این ای سی ، CVV، OTP ، طلب نہیں کرے گا۔ برائے مہربانی کسی سے بھی اس طرح کی معلومات کا تبادلہ نہ کریں۔ ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم معلومات سے محروم ہونے سے بچنے کے لیے ہمیشہ بینک کے ساتھ پروفاٹلز / ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھیں آپ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے متعلقہ NRSP BANK برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا NRSP BANK کے 24 گھنٹے بینکنگ +92-62-111-011-011 پر کال کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اکاؤنٹ اگر 12 ماہ تک غیر فعال رہتا ہے تو ایسے محفل بغیر فعال تصور کیا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا تو آپ اکاؤنٹ کے دوبارہ سے ایکٹیوٹ ہونے تک ڈیٹ ٹرانزیکشنز کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ایئر اکاؤنٹ کو دوبارہ سے ایکٹیوٹ کرنے کے لیے جس ان آر ایس پی بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ کھلویا تھا آپ کو وہاں جانا ہو گا تا کہہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ اور آپ کے اکاؤنٹ کو ری ایکٹیوٹ کیا جا سکے۔ غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹس۔ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے سیکشن 31 کی شرائط کے تحت وہ تمام ڈپازٹس جنہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران آپریٹ نہیں کیا گیا، سوائے اس ڈپازٹ کے جو کسی نا بالغ یا حکومت یا عدالت عظمیٰ کے نام ہو، قانون کی دفعات کے مطابق شرائط پوری کرنے کے بعد، متفقہ بینکوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیے گئے ڈپازٹس کے سلسلے میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے جس این آر ایس پی بینک برانچ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلویا تھا وہاں کے برانچ منیجر/ آپریشن منیجر سے رابطہ کریں۔ اس اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے برائے مہربانی بینک کے داخلی طریقہ کار پر عمل کریں، برائے مہربانی رہنمائی کر لیں۔ جس این آر ایس پی بینک کی برانچ میں آپ نے اکاؤنٹ کھلویا تھا وہاں کے برانچ منیجر/ آپریشن منیجر سے رابطہ کریں۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیے: بیس اکاؤنٹ کے مطابق ڈپازٹس اکاؤنٹس کی فیکٹ شیٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کی بیرونی کی جائے گی۔ ایکسپائر شناختی کارڈ/ دستاویزات: ایک ہار آپ کے جمع کرائی گئی شناختی کارڈ/ دستاویزات کی میعاد ختم ہو جائے تو آپ کو بینکنگ سروس حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک نئے شناختی کارڈ/ دستاویزات کی کاپی جمع کرنا ہو گی۔ این آر ایس پی مائیکرو فنانس بینک لمیٹڈ ہیڈ آفس نزد بغداد ریلوے سٹیشن یونیورسٹی روڈ ہیڈ آفس 63100 پاکستان۔ +92-62-2285126 +92-62-2280051 فری کال 06777-0800 متبادل نمبر: 051-2650004 Complaint@nrspbank.com UAN: 062-111-011-011 اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں: ڈائریکٹر، کنزیومر پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ ایس پی 5th فلوور مین بلڈنگ I.I چنڈریگر روڈ، کراچی۔ UAN: 021-111-727-273 فیکس نمبر: 99221160-021 ای میل: cpd.helpdesk@sbp.org.pk	
Customer Name		Date			
کسٹمر کا نام		تاریخ			
Product Choosed		Contact No			
پروڈکٹ کا انتخاب		رابطہ نمبر			
Mandate of Account (Single/ joint/ either or survivor.		Mobile No			
اکاؤنٹ کا مینڈیٹ (سنگل/جوائنٹ/ لواحقین یا دیگر		موبائل نمبر			
Address					
پتہ					
Customer's Signature		Signatuer Verified			
کسٹمر کے دستخط		تصدیق کنندہ			

		NRSP Microfinance Bank Limited Key Fact Statement - PKR Accounts (Fixed)						
Branch Name: _____								
Date: _____								
Premature/ Early Encashment/Withdrawal Fee قبل از وقت/جلد ادائیگی پر فیس								
IC,s	Within One Month	1-3 Months	3-6 Months	6-12 Months	1-2 Years	2-3 Years	3-4 Years	5 Years
3 Months	No Profit	Saving Account Rate						
6 Months	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC					
1 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
1 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
1 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC				
2 Years Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC			
2 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC			
2 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC			
3 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC	2 Year Quarterly IC		
3 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC	2 Year Half Yearly IC		
3 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC	2 Year Maturity IC		
5 Year Quarterly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Quarterly IC	2 Year Quarterly IC	3 Year Quarterly IC	3 Year Quarterly IC
5 Year Half Yearly	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Half Yearly IC	2 Year Half Yearly IC	3 Year Half Yearly IC	3 Year Half Yearly IC
5 Year Maturity	No Profit	Saving Account Rate	3 Months IC	6 Months IC	1 Year Maturity IC	2 Year Maturity IC	3 Year Maturity IC	3 Year Maturity IC
Customer Name کسٹمر کا نام					Date تاریخ			
Product Chooosed پروڈکٹ کا انتخاب					Contact No رابطہ نمبر			
Mandate of Account (Single/ joint/ either or survivor. اکاؤنٹ کا مینڈیٹ)						Mobile No موبائل نمبر		
Address پتہ								
Customer's Signature کسٹمر کے دستخط				Signatuer Verified تصدیق کنندہ				